

برائے فوری اجراء

سٹی برامپٹن کے مقامی کاروباروں کو فروغ دینے کے لیے "سپورٹ لوکل" مہم کا آغاز کر رہا ہے

برامپٹن، آن (20 مئی 2020) – آج سٹی آف برامپٹن نے رہائشیوں کی مقامی اشیاء کو خریدنے، کھانے، تحفے میں دینے اور اس کی حمایت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے اپنی "سپورٹ لوکل" مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ کورونا وائرس (کووڈ-19) نے مقامی کاروباروں کو بری طرح متاثر کیا ہے اور انہیں اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ برامپٹن کی کمیونٹی کی معاونت درکار ہے۔

چونکہ کاروبار آن لائن خریداری اور دکان کے باہر سے سامان اٹھانے کی پیشکش کر رہے ہیں اور اس طرح بالا آخر کھل بھی جائیں گے، "سپورٹ لوکل" مہم رہائشیوں کو کورونا وائرس کے دوران اور اس کے بعد بھی مقامی چیزوں کو دریافت کرنے، منتخب کرنے اور خریدنے کی ترغیب دیتا ہے۔ گھر لے کر جانے کے لیے کھانا آرڈر کرنے سے لے کر گفٹ کارڈز خریدنے اور دی روز کے آن لائن پروگراموں کو دیکھنے تک، رہائشی برامپٹن کی اپنی وسیع مقامی پیشکشوں سے بحفاظت لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔

لوگ اپنے پسندیدہ کاروباروں کو "سپورٹ لوکل" کے امیج اور ہیش ٹیگ #SupportLocalBrampton کے ساتھ سوشل میڈیا پر فروغ دے کر اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے مقامی کاروباروں سے تعامل کر کے بھی برامپٹن کے کاروباروں کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کر سکتے ہیں۔

مقامی کاروبار برامپٹن کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کورونا وائرس کی شروعات پر، سٹی نے کورونا وائرس سے گزرنے کے دوران برامپٹن کے کاروباروں کی مدد کے لیے ایک اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس بنائی تھی۔ اب تک، یہ ٹاسک فورس کاروباروں کے ساتھ 5,000 سے زائد رابطے کر چکی ہے اور اس نے ٹیلیفون ٹاؤن ہالز کے ساتھ تقریباً 900 چھوٹے کاروبار سے تعامل بھی کیا ہے اور کورونا وائرس کے اثرات اور ممکنہ حل کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ پچھلے ہفتے [برامپٹن کی سٹی کونسل نے ٹاسک فورس کی اکنامک ریکوری اسٹریٹیجی](#) کی منظوری دی تھی، جس میں کاروباروں کی مدد کرنے اور شہر کی معیشت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے کئی اقدامات میں سے ایک "سپورٹ لوکل" مہم بھی شامل تھی۔

مزید جاننے کے لیے، ملاحظہ کریں www.brampton.ca/supportlocal

اقتباسات

"میں رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ مقامی کاروباروں کی حمایت کریں اور اپنے شہر کی معیشت کو دوبارہ تعمیر کرنے، اپنی قابل قدر کاروباری کمیونٹی کی مدد کرنے اور انٹرپرائیوٹرشپ میں سرمایہ کاری کرنے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ایک ساتھ مل کر ہم اپنے زبردست شہر کو اس بحران سے بحال ہونے میں مدد دینے سے فرق پیدا کر سکتے ہیں۔"

– پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"اس مہم کو شروع کر کے، ہم برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن BIA کے ساتھ اپنی رہائشیوں کی حوصلہ افزائی میں شامل ہو رہے ہیں کہ وہ مقامی چیزوں کی حمایت کرنے اور ہمارے کاروباروں اور شہر کو اس عالمی وباء سے بحال ہونے میں مدد دینے کی اس تحریک میں شامل ہوں۔ انہیں اپنی کمیونٹی میں نوکریاں پیدا کرنے اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے مل جل کر کام کریں۔ ہم ایک ساتھ حقیقت میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔"

– مائیکل پیلیسچی، ریجنل کونسلر، وارڈز 2 اور 6؛ کو چیئر، اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس

"اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ، مقامی چیزوں کی حمایت کرنا ضروری ہے – آئیں ہم اپنی محنت سے کمائی گئی رقم کو کمیونٹی میں ہی رکھیں اور کاروباروں کو کووڈ-19 کے تباہ کن اثرات سے بحال ہونے میں مدد دیں۔ ہمیں ہمیشہ برامپٹن کی کمیونٹی کے جذبے پر فخر ہوتا ہے – اب وقت ہے کہ ہم اپنے کاروباروں کو بتائیں کہ ہم ان کی کتنی قدر کرتے ہیں۔"

– پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5؛ کو چیئر، اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس

"ہم نے کووڈ-19 کے اثرات کا ردعمل دینے میں مل جل کر کام کرتے ہوئے اپنے رہائشیوں اور کاروباروں کی جانب سے مہربانی، مدد اور کمیونٹی کے جذبے کے بہت سارے اقدامات دیکھے ہیں۔ انہیں اس زبردست تحریک کو آگے بڑھانا جاری رکھیں، جبکہ ہم آخر کار معمولات زندگی دوبارہ کھولنے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔"

– ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca